

Joint Call on Prime Minister by National Security Advisers / Secretaries of Security Councils attending the "Delhi Regional Security Dialogue on Afghanistan"

November 10, 2021

"افغانستان کے حوالے سے دہلی علاقائی سلامتی مذاکرات" میں شرکت کر رہے قومی سلامتی کے مشیروں/ سلامتی کونسلوں کے سیکرٹریوں کی وزیر اعظم سے مشترکہ ملاقات

10 نومبر، 2021

سات ممالک کے قومی سلامتی کونسلوں کے سربراہان، جو آج قومی سلامتی کے مشیر جناب اجیت دوول کی میزبانی میں افغانستان پر علاقائی سلامتی کے مذاکرات کے لیے دہلی میں ہیں، مذاکرات کی تکمیل کے بعد اجتماعی طور پر وزیر اعظم جناب نریندر مودی سے ملاقات کی۔

وزیر اعظم کے تئیں اپنے تبصروں میں، ایران، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کی نمائندگی کرنے والے اعلیٰ سیکورٹی افسران نے مذاکرات کے انعقاد اور تبادلوں کے معیار پر ہندوستان کے اقدام کی تعریف کی۔ انہوں نے افغان صورتحال پر اپنے اپنے ممالک کے نقطہ نظر سے بھی آگاہ کیا۔

وزیر اعظم نے وبائی امراض سے درپیش چیلنجوں کے باوجود دہلی سیکورٹی ڈائلاگ میں سینئر معززین کی شرکت کو سراہا۔

انہوں نے افغانستان کے تناظر میں چار پہلوؤں پر زور دیا جن پر خطے کے ممالک کو توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوگی: ایک جامع حکومت کی ضرورت؛ دہشت گرد گروپوں کے زیر استعمال افغان سرزمین کے بارے میں صفر رواداری کا موقف؛ افغانستان سے منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ کے انسداد کے لیے حکمت عملی؛ اور افغانستان میں بڑھتے ہوئے سنگین انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عمل۔

وزیر اعظم نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ علاقائی سلامتی مذاکرات وسطی ایشیا کی اعتدال پسندی اور ترقی پسند ثقافت کی روایات کو بحال کرنے اور انتہا پسندی کے رجحانات کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کرے گا۔

نئی دہلی

10 نومبر، 2021